



سوال

(559) رضاعت کی وجہ سے عورت کو کتنا عرصہ حیض نہیں آتا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص کی بیوی ہے، اس نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ اس کی اپنی بیوی کے بطن سے ایک بچی ہے جو ابھی دودھ پیتی ہے۔ لوگوں نے مرد پر نان و نفقہ عائد کر دیا، لہذا عورت کی مدت کتنی ہوگی، جس میں اس کو رضاعت کی وجہ سے حیض نہیں آتا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جمہور علماء جیسے مالک، شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کے نزدیک تین طلاقوں کی عدت گزارنے والی عورت کے لیے نان و نفقہ ثابت نہیں ہے لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عدت کے دوران اس کے لیے نان و نفقہ ثابت کرتے ہیں۔ اور جب عورت ان عورتوں سے ہے جن کو حیض آتا ہو تو وہ تین حیض تک عدت میں ہوگی، اور مرضعہ کا حیض اکثر موخر ہو جاتا ہے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کو رضاعت کی اجرت دی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ أَمْوَالَهُنَّ... ۱ ... سورة الطلاق

"پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو۔"

اور تنگ دست آدمی پر نان و نفقہ واجب نہیں ہے، نان و نفقہ صرف آسودہ حال اور مال دار شخص پر واجب ہے۔ (امین تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 502



محدث فتویٰ